

NOOR
International



**الوحي الالهي
وصفات الانسان في القران**

**WAHYIN ALLAH
DA BAYANIN MUTUM
A CIKIN AL-QUR'ANI**





● DA SUNAN ALLAH MAI RAHAMA MAI JIN QAI ●

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ
الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا
قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ
يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ
خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ {

[غافر: ٨٣-٨٥]

Sannan lokacin da manzanninsu suka zo musu da (ayoyi) bayyanannu, sai suka nuna farin ciki da ilimin da ke gare su, abin kuma da suka kasance suna yi wa izgili ya saukar musu. To lokacin da suka ga azabarmu sai suka ce: hMun yi imani da Allah Shi kaxai, mun kuma kafirce wa abin da muka kasance muna yin shirka da shi.

To imaninsu bai zamanto zai amfane su ba yayin da suka ga azabarmu; wannan sunna ce ta Allah wadda ta shuxe a kan bayinsa. Kafirai kuma sun yi asara a nan

Alkur'ani (40: 83-85)

AIKON DIN AIKI - TONA



أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ
نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ
فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا

[الأنعام: ١٢٢]

Shin yanzu wanda ya kasance matacce (kafiri), sai Muka rayar da shi, kuma Muka sanya masa haske (na shiriya), yana tafiya da shi cikin mutane, (yanzu) zai zama kamar wanda yake cikin duhu (na kafirci), ta yadda ba zai iya fita daga cikinsa ba? Kamar haka ne aka qawata wa kafirai abin da suka kasance suna

Alkur'ani (6: 122)

AIKON DIN AIKI - TONA



فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ
وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

[القصص: ٥٠]

To idan ba su amsa maka ba, to ka sani
cewa ba abin da suke bi sai soye-soyen
zukatansu kawai. Ba kuwa wanda ya fi
vacewa kamar wanda ya bi son zuciyarsa
ba tare da wata shiriya daga Allah ba.
Lalle Allah ba Ya shiryar da mutane
azzalumai

Alkur'ani (28: 50)

AIKON DIN AIKI - TONA





NOOR
International

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ - وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ - قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

[يس ٧٧: ٧٩]

Yanzu mutum ba ya gani cewa Mu Muka halicce shi daga maniyyi, sai ga shi ya zama mai jayayya a fili? Ya kuma buga mana misali, kuma ya manta da halittarsa (yayin da) ya ce: hWane ne zai raya qasusuwa, alhali kuma sun rududduge? Ka ce: hWannan da Ya fare su tun farko Shi ne zai raya su; Shi kuwa Masanin kowacce irin halitta ne

Alkur'ani (36: 77-79)

AIKON DIN AIKI - TONA



وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي
الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ

[البقره: ٣٠]

Kuma ka tuna saɓadda Ubangijinka Ya ce da
malaïku: hLalle ni zan sanya wani halifa[1]
a bayan qasa. Suka ce: hYanzu za Ka sanya
mata wanda zai yi varna a cikinta kuma ya
zubar da jini, alhali ga mu muna tasbihi tare
da gode Maka, kuma muna tsarkake Ka?
(Allah) Ya ce: hNi fa tabbas Na san abin da
ku ba ku sani ba.

Alkur'ani (2: 30)

AIKON DIN AIKI - TONA



رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ
لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ
اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

[النساء: ١٦٥]

Manzanni ne masu albishir kuma masu
gargaxi, domin kada mutane su sami
wata hujja a wurin Allah bayan aiko
manzannin. Kuma Allah Ya kasance
Mabuwayi ne, Mai hikima

Alkur'ani (3: 165)

AIKON DIN AIKI - TONA



يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ
أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا
مَيْلًا عَظِيمًا

[النساء: ٢٦-٢٧]

Allah Yana nufin yi muku bayani ne, kuma
Ya shiryar da ku hanyoyin waxanda suka
gabace ku, kuma Ya karvi tubanku. Kuma
Allah Mai yawan sani ne, Mai hikima Kuma
Allah Yana nufin Ya karvi tubanku ne,
amma waxanda suke bin
shaiwace-shaiwace, su kuma suna nufin

Alkur'ani (3: 26-27)

AIKON DIN AIKI - TONA



فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ
رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ
قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ
وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ
فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ

[يونس: ٧٣-٧٦]

Sai suka qaryata shi, sai Muka tserar da shi da waxanda suke tare da shi a cikin jirgin ruwa, Muka kuma mayar da su masu maye gurbin (waxanda suka gabace su), Muka kuma nutsar da waxanda suka qaryata ayoyinmu. To duba ka ga yadda qarshen waxanda aka yi wa gargaxi ya kasance Sannan a bayansa (Annabi Nuhu) Muka aika manzanni zuwa ga mutanensu suka zo musu da (ayoyi) mabayyana, ba su zamanto suna gaskata abin da a da can suke qaryata shi ba. Kamar haka ne Muke toshe zukatan masu shishshigi Sannan daga bayansu Muka aiko Musa da Haruna zuwa ga Fir'auna shi da jama'arsa da ayoyinmu, sai suka yi girman kai suka kuwa zamanto mutane masu laifi To lokacin da gaskiya ta zo musu daga wurinmu sai suka ce: hLalle wannan tabbas tsafi ne bayyananne.Ô

Alkur'ani (10: 73-77)

IAIKON DIN AIKI - TONA



وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

[الجاثية: ١٣]

Ya kuma hore muku abin da yake cikin
sammai da abin da yake cikin qasa gaba
xayansu daga gare Shi. Lalle a game da
wannan tabbas akwai ayoyi ga mutanen
da suke yin tunani

Alkur'ani (45: 13)

AIKON DIN AIKI - TONA



إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا
مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ


[البقرة: ١٦٤]

Lalle a cikin halittar sammai da qasa da sassavawar
dare da rana da jiragen ruwa da suke tafiya a kan
ruwa da abin da yake amfanar mutane da kuma abin
da Allah Ya saukar daga sama na ruwa, Ya rayar da
qasa da shi bayan mutuwarda, Ya kuma yaxa duk
wata halitta mai tafiya a cikin (qasa) da jujjuyawar
iska, da kuma girgije da aka hore shi tsakanin sama
da qasa, lalle akwai ayoyi ga mutane masu hankali

Alkur'ani (2: 164)

AIKON DIN AIKI - TONA





NOOR
International

**الوحى الالهى
وصفات الانسان فى القرآن**

WAHYIN ALLAH

DA BAYANIN MUTUM

ACIKIN AL-QUR'ANI

shkran

